

30. AL-RUM (BANGSO RUMAWI)

Suet ke-30: 60 ayat

Ngen sembut gen Allah De Maho
Pengasiak, Maho Penyayang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Alif lam mim (hanya Tuhan de namen
ne).

الْم

2. Sudo naleak bangso Romawi.

غُلِبَتِ الرُّومُ

3. Neak negrai de paok, ngen tobo'o sudo
naleak o de menang.

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ

سَيَغْلِبُونَ

4. Lem taun-taun igai untuk Allah ba urusan
sebelum ngen sesudah (tobo'o menang)
ngen bilai (bangso Romawi menang) do'o
riang ba tun-tun berimen.

فِي بَضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ

5. Karno tmulung, si temulung siapi de
kenlok ngen sib a de maho perkaso igai
maha penyayang.

بِنَصْرِ اللَّهِ ۗ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الرَّحِيمُ

6. Janjai ne sebenea-benea ne kundi Allah.
Allah coa mukin semaleak janjai ne, tapi
dau manuio coa namen.

وَعَدَ اللَّهُ ۗ لَا تَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

7. Tobo'o hanya namen de laher (bae)
kundai kehidupan dunio, sedang tobo'o
tentang (kehidupan) akherat laloi.

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ

الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ

8. Getai tobo'o coa meker tentang (trjjai)
dirai tobo'o? Allah coa jmijai lenget ngen
bumai ngen jano de ade neak antaro
keduwai ne kalau neak antaro manusio
benea-benea meker neak ngen Tuhan ne.

أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ

9. Ngen janokah tobo'o coa made dalen
neak muko bumai ngen kemliak keakro
akibat (de nding) untuk tun-tun de

أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

sebelum tobo'o? tun-tun o adeba lebiak kuet kundi tobo'o (dewek) ngen sudo mullah bumai (taneak) ngen memakmurkan lebiak dau kundi jano de sudo tobo'o makmur. Ngen sudo teko ngen tobo'o rasul-rasul tobo'o ngen mbin bukti-bukti de nyato. Mako Allah dedbat coa berlaku jahat ngen tobo'o, tapi tobo'o ba de berlaku jahat ngen dirai dewek.

10. Sudo'o akibat tun-tun de kemerjo de jahat do'o ba (azab) de lebiak buuk, karno tobo'o ngike ayat-ayat Allah ngen tobo'o selalu gemurek si.

11. Allah menea (manusio) kundi pertama, sudo'o melek (midup) ne igai. Sudo'o ngen si ba ko nelek.

12. Bilai terjijai ne kiamat, tun-tun de beduso tediem putus asa

13. Ngen dedbat coa ade melei syafaat untuk tobo'o kundi berhal-berhala tobo'o de ade bat obo 'o muker berhala tobo'o.

14. Ngen pado bilai terjijai kiamat, neak bilai o tobo'o (manusio) rombongan.

15. Luyen tun-tun de beriman ngen kemerjo amal saleh, mako tobo'o neak lem taman (surgo) reriang

16. Luyen tun-tun de kafia ngen ngike ayat-ayat keme (Al Quran) kulo (ngike) temau bilai akhirat, mako tobo'o tep diem neak sikso (nerako).

17. Mako bertasbi ba ngen Allah neak waktu nu diem neak pelbeak bilai ngen waktu nu diem neak wakatau shubuh.

18. Ngen bagi nub a kute pujai neak lenget ngen neak bumai ngen neak waktu nu

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا
الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۗ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٠﴾

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسْتَفُوا أَلْسُوْاى أَن
كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾

اللَّهُ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٢﴾

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٣﴾

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاتٌ وَكَانُوا
بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٤﴾

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِذُ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٥﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ
فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٦﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَايِ الْآخِرَةِ
فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُضْرُونَ ﴿١٧﴾

فَسَبَّحَنَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٨﴾

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا

diem neak pelbeak bilai ngen neak waktau nu diem neak waktau lohor.

وَحِينَ تَظْهَرُونَ ﴿١٩﴾

19. Si kemeluwea de idup kundi de matei ngen kemelewua de matei kundi de idu ngen bumai sudoh matei ne ngen awei o ba ko kenlewea (kundi kubua).

تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ
وَتُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ

﴿٢٠﴾

20. Ngen neak antaro tando-tando kekuasaan ne do'o ba si menea ko kundi pitok, sudo o tibo-tibo ko (jijai) manusio de berkembang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ

بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢١﴾

21. Ngen neak antaro tando-tando kekuasaan ne do'o ba si menea untuk nu ngenyan-nyenyan kundi jenis dewek, antaro nu asai kasiak ngan saying. Sebeneane de uyo o benea-benea dapet tando-tando untuk kaum de peker.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

22. Ngen nak antaro kekuasaan ne do'o ba menea lenget ngen bumai ngen luyen-luyen basone ngen warno awok nu, sebeneane de uyo o benea-benea dapet tando-tando untuk tun-tun de namen

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفُ
الْأَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّوَيْنِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾

23. Neak antaro tando-tando kekuasaan ne do'o ba tidua neak waktau kelmen ngen kebilai ngen usaho nu mesoa pao kundi karunia ne. sebeneane pado de uyo o benea-benea dape tando-tando untuk kaum de tmiuk.

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ
مِّنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَسْمَعُونَ ﴿٢٤﴾

24. Neak antao tando-tando kekuasaan ne si melei kemliak ngen ko gelep untuk (tmboa) saben ngen harapan si tmuun bioa ujen kundi lenget, sudo'o midup bumai ngen bioa sesudo matei ne. sebeneane pado de uyo o benea-benea dapat tando-tando untuk kaum de gemuno.

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٥﴾

﴿٢٥﴾

25. Neak antaro tando-tando kekuasaan ne do'o ba tegaok ne lenget ngen bumai ngen iradat ne. sudo'o kalau si manggea ko debat manggea kundi bumai, seketiko o (kulo) ko kelewea (kundi kubua).
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ
 ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ
 تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾
26. Ngen giken bah api bae dik ade nak lenget ngen bumei kutene cumin ngen si (Allah) tunu'.
 وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ
 قِنْتُونَ ﴿٢٦﴾
27. Ngen si bah di' cmipta (manusio) kunei permulaan, sudah o melek ne (midup) ne belek, ngen midup bele' o do'o ba lebieak mudeak bagei-ne, ngen bagei neb a sifat-sifat di' maha lekat nak lenget ngen bumei/dunyo, ngen si bah gik maha perkasa igai maha bijaksana.
 وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ
 أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾
28. Si meneak perumpamaan utu' udi kunei direi udi dewe' jano ade nak antaro hamba-sahaya dik temwan tangent kanen nu, sekutu bageinu lem (tmwan) di' sudo keme mlei ngen udi, make udi samo ngen tobo o lem (hok makei) jekal o, udi saben ngen tobo o gen udi saben ngen dirai nu dewe'? awei o bah keme jemlas ayat-ayat bagei kaum brakal.
 ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ
 فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ
 ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾
29. Tapi tun-tun (manusio-manusio) di' zalim, tmotoa hawa nafsune tanpa lemau pengetahuan mako api bah dik tmuyuk tun dik sudoh sensate Allah? Ngen coa gen bah bage tobo o tmulung udi dikup pun.
 بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ
 فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ
 ﴿٢٩﴾
30. Mako nadep ba papeanu ngen lu'us moi agama (Allah); (tetap bah das) fitrah Allah bik sudoh cnipta manusio tmotoa fitrah o, coa gen perubahan nak fitrah Allah, (do'o bah) agamo gik li'us, tapi dau manusio di' coa namen.
 فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
 النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ
 الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

31. Ngen bele' betaubat, ngen si dudoh o bertaqwa bah ngen si ngen tenggo' bah semyang ngen jibeak bah udi tmesuk manusio-manusio di' demwey Tuhan (Allah).

﴿١٦﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٧﴾

32. Do'o bah manusio-manusio mcueak bleak agama tobo ne ngen tobo ne jmijei kedeu golongan. Tip-tip golongan mraso bangga ngen jano di' ade ngen/na' golongan ne.

﴿١٧﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿١٨﴾

33. Ngen apobi;o manusio negong ngen suatu bahayo, tobo ne menyeru ngen Tuhan ne ngen bele' betaubat ngen si, sudoh o apobilo Tuhan mraso ngen tobo o barang didik rahmat. Kunei si ne tibo-tibo sbagai kunei ne semkutu tuhan ne.

﴿١٨﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَدَّاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

34. Singo tobo ne ingkar aken rahmat di' sudoh nlei ngen tobo ne. mako briang-riang bah udi kute ne be aken namen (akibat perbuatan nu).

﴿١٩﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ ۖ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

35. Atau pernah keme tmu'un ngen udi keterangan sudoh o keterangan o tmunyu' (kebenaran) jano di' udi galo' semkutu ngen Tuhan?.

﴿٢٠﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ ﴿٢١﴾

36. Nen apobilo keme maling suatuhmat ngen manuio, niscayo tobo ne kao musibah (bahayo) sebabne ksalea' di' sudoh knerjo ngen tangent tobo ne dewe', tibo-tibo tobo o berputus aseas',.

﴿٢١﴾ وَإِذَا أَدَقْنَا لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٢٢﴾

37. Ngen jano bah kobo o coa mrati bahwa sesungguhnya' ne Allah mlapang jegai bgei api dik kemla' ne ngen si (kulo) di'sempit (jakei o) sesungguhnya' ne di

﴿٢٢﴾ أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٣﴾

awei o....o benea-benea ade tano-tano (kekuasaan Allah) bagei kaum di' briman.

38. Mako nlei bah ngen krabat di' pa'ak aken hok ne, awei o (kulo) ngen fakir-fakir ngen manusio-manusio di'nak lem perjalanan, do'o bah lebiea' bik bagei manusio-mnsusio di' msoea kridoan Allah, kobo oh bah manusio-manuiso dik bruntung.

فَإِذَا الْفُرُبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٨﴾

39. Ngen sesuatu riba dik nley udi utuk tmameak harto manusio, mako (sebeneane) riba o coa tmameak nak sisi Allah, ngen jano di' udi mlei brupo zakat, utuk cmapei kridoan Allah, mako tun-tun o bah dik nlipet gandakan pahalo ne (pahalo kobo o).

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٢٩﴾

40. Allah bak dik cmipta udi, sudoh o mlei udi jekai sudoh o manuat udi, sudoh o midup udi (igai) ade coa nak antaro dik udi semkutu ngen Tuhan dik dapet mnea sesuatu kunei di awey o? maho suci si ngen maho lekat bah kunei jano gi' kobo semkutu.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٠﴾

41. Sudoh timoa krusakannak darat ngen laut karno perbuatan tangent manusio supayo Allah mraso ngen si sbagian kuney (akibat) perbuatan ne, aken kobo o bele' (moi dalen di bnea).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

42. Nadeak bah: "Nadeak bah perjalanan nak muko dunyo ngen nratih bah ngen luo ksudoh manusio-manusio dik terdahulu, dai kuney kobo'o di' semkutu (Allah)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٣٢﴾

43. Oleh karno o, nadep papea nu ngen agamo dik lu'us (Islam) seblum tko kuney Allah sesuatu bilei dik coa nam tnulok (kdatanganne) pada biley o kobo o

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٣٣﴾

berpisah-pisah.

44. Barang api dik kafir mako si suang dik tmangung (akibat) kekafiranne, ngen barang api di bramal soleh mako utuk ne suang bah k one semyap (plabey dik menyenangkan)
- مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يَمَّهْدُونَ ﴿٤٤﴾
45. Aken Allah mlei pahalo ngen manusio-manusio dik beriman ngen beramal soleh ngen karunia ne sesungue'ne si coa suang manusio dik ingkar.
- لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾
46. Ngen nak antaro tano-tano kekuasaan ne do'o bah bahwa si kmirim angina sbagai dik min brita riang, ngen utuk mdeng ngenko sbagieak kunei rahmat-ne akan kapal dapet blayar ngen priteak ne ngen aken ko nam msoa karunia-ne mudeak-mudehan ko besyukur.
- وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾
47. Ngen sesunggueak ne keme sudoh mutus sebelum udi beberapo tun rasul ngen kaum ne. kobo o ktoa ngen si ngen min keterangan-keterangan (dik cukup) sudoh o keme mnea pembaklasan terhadap manusio-manusio dik bduso, keme bik berkewajiban tmulung manusio-manusio dik berimen.
- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوْا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾
48. Allah ba gik kmeirim angina, sudo o angina o gemrok awan dan Allah mtang ne nak lenget sesuai gik si kemlok, dan jmijai ne bergumpal-gunpal, sudo o ko kemleak, ujen awei clah-xlah ne, mako apo bilo si tmuun ne angin hamba-hamba ne gik si kemlok tibo-tibo tabo'o riang.
- اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۗ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾
49. Padahal walaupun ati ujen tnuun ne ngen tabo'o, tabo'o benea-benea bi putus aso.
- وَأِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾
50. Mako kenlieak b ages-ges rahmat Allah,
- فَانظُرْ إِلَىٰ ءَاثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ تُحْيِي الْأَرْضَ

akueak ro Allah midup ne bumai bi matei (keing). Bnea, do'o ber'artai si teb (bekuas) midup ne gik bi matei. Dan si maha kuaso das kute sesuatu.

بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

51. Dan bnea, jiko keme kmirimne angina sudo o tabo'o kemlieak (tumbuh-tumbuhan o) jijai kuning (keing), niscayo sesudo o tep ingkar

وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ وَيَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾

52. Mako bnea, ko coa gi sanggup jmijai tun-tun gik matei o dapet tmiuk, dan jmijaie tun-tun gikstiuk dapet tmiuk seruan, apobilo tabo'o berpaling moi blakang.

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾

53. Dan ko coa gi dapet mlei ptunjuk ngen tun-tun gik oon (matei atei ne) kundi kesesatan ne, dank o coa dapet tmiukne (ptunjuk tuhan) kecuali ngen tun-tun gik berimen ngen ayat-ayat keme, mako tabo'o bat un-tun gi besreak dirai (ngen keme).

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

54. Allah ba gik cmipto ne ko kundi keadaan lmas o jijai kwet, sudo o si jmijai ne (ko) bi kwet o lmas (mbelek) dan bubeak. Si cmiptone jano gik si kemlok. Dan si maha namen, maho kuaso.

﴿٥٤﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

55. Dan pado bilai (ngen) jijai ne kiamat, tun-tun gik beduso bsupeak, bahwa tabo'o dyem (lem kubuea) cumin sesaat (bae). Awei o ba bel'o tabo'o ber paling (kundi kebenaran).

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

56. Dan tun-tun gik nlei lemau dan keimanan madeak (ngen tun-tun kafea), bnea, ko bi dyem (lem kubuea) sesuai ketetapan Allah, sapei bilai klongon. Mao dyo ba bilai klongon o, tapi (bel'o) ko coa myakini (ne).

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

57. Mako pado bilai o coa bermanfaat (igai) mitak maaf tun-tun gik zalim dan tabo'o coa kulo nlei kesempatan tobat igai.
- فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾
58. Dan sebeneane bi keme jemlas ngen manusio mcem perumpamaan lem Quran yo, dan jiko ko mbin suatu ayat ngen tabo'o, teb bat un-tun kafea o akan madeak, “ ko cumin bat un-tun gik menea kepalsuan belako”.
- وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾
59. Demikian ba Allah kmucai atei tun-tun gik coa (lok) ngertai.
- كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾
60. Mako basabar ba ko (Muhammad). Sebeneane Allah o bnea dan sekali-kali jibeak sapei tun-tun gik tun coa myakini (kebenaran ayat-ayat Allah) o menggelisahkan ko.
- فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوفُونَ ﴿٦٠﴾